

برائے فوری اجراء

اس ستمبر کے مہینے میں برامپٹن ٹری منتھ کی خوشیاں منائیں!

برامپٹن، آن (27 اگست 2021) – برامپٹن کے درختوں کی خوشیاں منانے کے لیے اس ستمبر میں پہلی مرتبہ ہمارے نامزد کردہ ٹری منتھ میں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں! سٹی اور اس کے شراکت دار اس اہم مہینے کے ایک حصے کے طور پر تقریبات اور ترغیبات کی میزبانی کریں گے، جس میں ایک دلچسپ درخت کا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ برامپٹن ٹری منتھ کو CN کا تعاون حاصل ہے۔

ریزیڈینشل ٹری گو اوے (10 ستمبر 2021 سے کھلے گا)

برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ہمارے ریزیڈینشل ٹری گو اوے کی رجسٹریشن کا عمل 10 ستمبر سے شروع ہو جائے گا! سٹی رجسٹر شدہ شرکت کنندگان میں مخلت انواع (ریڈ میپل، ریڈ اوک، بڑا اوک اور وائیٹ سپروس) کے 2,400 پودے تقسیم کرے گا۔ فی خاندان ایک پودا دیا جائے گا جو صرف پرائیویٹ پراپرٹی میں ہی لگائے جا سکتے ہیں (فرنٹ یا بیک یارڈز میں) شرکت کرنے کے لیے رہائشیوں کو لازمی رجسٹر ہونا پڑے گا۔ پودے ذاتی طور پر لے جانے کے لیے 25 ستمبر کے ویک اینڈ کے دوران دستیاب ہوں گے۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/trees ملاحظہ کریں۔

ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر مربوط ہو جائیں

برامپٹن میں اپنے کسی پسندیدہ درخت یا درختوں کی تصاویر بنائیں اور انہیں #BramptonTrees استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور ہمارے چینلز @CityBrampton اور ہماری ویب سائٹ www.brampton.ca/trees پر فیچر ہونے کا ایک موقع جیتیں۔

نیچرل ہیریٹیج سسٹمز سروے

ہمیں بتائیں کہ آپ برامپٹن کے ووڈ لینڈز، ویٹ لینڈز، ویلی لینڈز، میڈوز اور ایسے دیگر قدرتی مقامات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ کہ آپ فطرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہاں جاتے ہیں اور ایک پرائز جیتنے کے موقع میں شامل ہو جائیں۔

نیچرل ہیریٹیج سسٹمز سروے مکمل کریں۔

ٹری ریسورسز

درختوں کے بارے میں سب کچھ جانیں اور درختوں کے ان تیار وسائل – یا ٹری ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں ٹری منتھ میں شامل ہو جائیں!

- [برامپٹن کے درخت](#)
- [سٹی آف برامپٹن کی جانب سے درختوں کی نگہداشت کے لیے مفید مشورے](#)
- [درختوں کی ٹریکنگ کے لیے تعاملی ٹول](#)
- [ون ملین ٹریز پروگرام](#)
- [ٹری کینیڈا](#)
- [نیشنل فارسٹ ویک: 19 تا 25 ستمبر 2021](#)

برامپٹن کے درختوں کے بارے میں حقائق

- برامپٹن میں موجودہ طور پر تقریباً 3.6 ملین درخت موجود ہیں جو کل زیر احاطہ اراضی کا 18 فیصد ہے۔
- گزشتہ پانچ سالوں کے دوران سٹی اور اس کے شراکت داروں – بشمول تحفظ کے حکام، ریجن آف پیل، اسکول بورڈز اور ترقیاتی صنعت – نے برامپٹن میں ہر سال اوسطاً 43,000 درخت لگائے ہیں۔
- 2014 سے لے کر اب تک برامپٹن میں ایک چوتھائی ملین سے زیادہ درخت لگائے جا چکے ہیں۔

"برامپٹن سٹی کونسل نے ستمبر کو برامپٹن ٹری منتھ کے طور پر اعلان کر دیا ہے! برامپٹن ایک سر سبز و شاداب شہر ہے اور ہم اپنے شہر کے شہری جنگلات کے تحفظ کے لیے نہایت فعال طریقے سے کام کر رہے ہیں اور 2040 تک ایک ملین درخت لگانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ درخت ہوا کو صاف کرنے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی لانے، املاک کی اقدار میں اضافہ کرنے اور ہماری کمیونٹی کو خوبصورت بنانے سمیت سب کو بے شمار فوائد پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"بیبی ٹری منتھ، برامپٹن! اس متاثر کن مہینے کے ایک حصے کے طور پر، میں سب کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ باہر جا کر سیر کریں اور برامپٹن کے قدرتی ورثہ کے نظام کو جانیں، ایک درخت لگائیں اور پھر ہمارے ٹری ٹریکنگ ٹول کے ذریعے اس کا سراغ لگائیں، پائیدار جنگلات کے انتظام کے بارے میں مزید جانیں اور www.brampton.ca/trees کو کھنگالیں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ٹری منتھ ہمارے شہر میں سب کے لیے درختوں کی اہمیت کو پہچاننے اور اس کے بارے میں جاننے کا ایک نادر موقع ہے۔ ریزیڈنٹس ٹری گو اوے میں حصہ لیں، #BramptonTrees استعمال کرتے ہوئے درختوں کی تصاویر پوسٹ کریں اور ہمارے وسائل اور ترغیبات کی چھان بین کریں۔"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ برامپٹن کے خوبصورت درختوں کی چھتری بنانے، اسے برقرار رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے پر عزم ہے۔ برامپٹن ٹری مہینہ ہمارے گرو گرین انوائرمینٹل ماسٹر پلان، ارین فاریسٹ منیجمنٹ پلان اور کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پروگرام کو تقویت فراہم کرتا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca